

68837 - نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت آنکھیں چومنے کا حکم

سوال

ہمارے ملک میں بعض علماء کہتے ہیں کہ جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو اس کو اپنے آنکھیں چومنی چاہیں، لیکن ان کے علاوہ دوسرے علماء کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، اس سلسلہ میں آپ کی رائے کیا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

مسلمان شخص جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر آپ کی عزت و توقیر کرنی چاہیے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے "

سنن ترمذی حدیث نمبر (3545) علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل (6) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اور حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے "

سنن ترمذی حدیث نمبر (3546) علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل (6) میں اسے حسن قرار دیا ہے۔

رہا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آنکھیں چومنا لگتا ہے کہ سائل اس سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگانا مراد لے رہا ہے، ایسا کرنا بدعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے "

سنن ابو داؤد حدیث نمبر (4607) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

یہ بدعت بعض صوفی طریقہ کی ایجاد ہے اور بعض مسلمانوں نے ان صوفیوں پر اچھا گمان کرتے ہوئے اس پر عمل

کرنا شروع کر دیا ہے لیکن وہ اس سے جاہل ہیں کہ یہ بدعت اور گمراہی ہے۔

مسلمان پر واجب ہے کہ وہ بدعات کو نہ اپنائے اور اس سے دور رہے، اور کتاب و سنت کی اتباع کی حرص رکھتے ہوئے سنت کی پیروی کرے اس میں نہ تو کچھ کمی کرے اور نہ ہی کتاب و سنت میں کوئی زیادتی کرے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا ہو المائدة (3)۔

اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے رب کے دین کی مکمل تبلیغ کر لی تھی اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو چھوڑی ہو، جو بھی خیر و بھلائی تھی اس کی طرف ہماری راہنمائی فرمائی، اور جو شر و برائی تھی اس سب سے ہمیں روکا اور منع فرمایا، میرا رب ان پر اپنی رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔

آپ بدعت کے متعلق فائدہ مند تفصیل اور اس کے حالات معلوم کرنے کے لیے سوال نمبر (10843) کے جواب کا مطالعہ ضرور کریں۔

واللہ اعلم .